

آعوذ بالله من الشيطان الرجيم



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ

I would like to say a few words about the significance of Aayatul Kursi, before I present the poetry.

Aayatul Kursi is regarded as one of the most powerful and longest aayats in Qur'aan, because when it is recited, the Greatness of Allah is believed to be confirmed, and it is a great spiritual and physical protection for mankind. Everything has its pinnacle, and the pinnacle of the Qur'aan is Surah Al-Baqarah. In Qur'aan there is an aayat which is the Greatest in Qur'aan; "Which is Aayatul Kursi".

Prophet Muhammad SAWS (May Allah shower His blessings and Grant him peace) said it is the Most important Aayat in Qur'aan. It is one of the four parts of Qur'aan that are attached to Arsh (Allah's Trone).

Tradition:- Hazrat Abu Dhar RZ said; O' Messenger of Allah, (May Allah be pleased with him) what is the greatest thing that has been revealed to you? He said, Aayatul Kursi.

In another Tradition; It is narrated that Hazrat Abu Umammah RZ (May Allah be pleased with him) said; The Prophet Muhammad SAWS (May Allah Shower His Blessings and Grant him Peace) said; "The one who recites it after each of the Obligatory Prayers, then death will be the only thing, preventing him from entering Paradise."

So, please make it a regular practice of spreading the significance of Aayatul Kursi among others, which would be a Sawab-e-Jariya for you and as well as for this humble Faqeer. The English Translation of Aayatul Kursi besides Urdu Poetry is my humble efforts. As you know

no translation can be perfect, anybody finds any mistakes please do not hesitate to inform me. Thank you.

آعوذ بالله من الشيطان الرجيم



آينه الكرسى كا منظوم اردو ترجمه

AAAYATUL KURSI

(Translated in English and Urdu poetry)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ج ٥

Allah! There is no God except Him (Allah), the Ever-living, the Everlasting/Eternal, (Who Sustains and Protects all that exists),

نہیں کوئی معبود، حق کے سوا☆☆☆ جو زندہ ہے، قائم اور دائم،

سدا

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ط

Neither slumber overtakes Him, nor sleep.

اُسے اونگھ يا نيند، آتى نہيں☆☆☆ کہ آرام کی اُس کو حاجت نہيں

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

To Allah belongs everything in the heavens and everything on earth.

زمیں آسماں میں، جو پیدا کیا ☆☆☆ وہی سب کا مالک ہے واحد الہ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

Who is that, who may intercede with Allah, except with His permission?

وہاں کون ایسا، کسی کے لئے ☆☆☆ بلا حکم اُس کے، سفارش کرے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج

He Knows what is before them, and what is behind them.

جو کچھ سامنے، اور پیچھے ہوا ☆☆☆ اُسے جانتا ہے، تمہارا خدا!

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ج

And they will never comprehend anything, of His Knowledge, except what He wishes.

خدا گر نہ چاہے، کسی چیز کا ☆☆☆ نہ ہو علم حاصل، کسی کو ذرا

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ج

His Seat of Throne/Kursi, embraces the heavens and the earth, and He feels no fatigue/weary in Guarding/Preserving them,

حکومت میں اُس کی، زمین آسماں ☆☆☆ حفاظت نہیں جن کی، اُس پر گراں

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿255﴾ (سورة البقرة)

And He is the All-Exalted/the Most-High, the Most-Great/All-Supreme (beyond human knowledge and wisdom).

وہی عالی شان اور عظمت نشاں!

قبول اُفتد زہے عز و شرف مولا! نَعْمُ الْمَوْلَا وَ نَعْمُ النَّصِير!

صدق اللہ مولانا العظیم و تقبل منا و صدق رسولہ الکریم و المہدی الموعود

وَ آخِرُ الدَّعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

آمین ثم آمین یا رب العالمین

Translated in English and Urdu Poetry

by

Faqeer Syed Sayeedul Haq Shaheen Tashreefullahi